



حَسْبُ الْإِشَادِ  
حضور پر نور سیدنا مرثیہ نامید رجب علی شاہ صاحب سجادہ نشین کوہ مری شریف





الَا انْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

يا قیوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایمانی

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِکَ لَهُ  
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ

بر غنایات حق خاصان حق  
کر ملک باشد بیستش درن

نفس نتوان چشت ان ظل بپیر  
دامن آن نفس ل راست بپیر

صلی اللہ علیہ وسلم

دظالفا  
قادریه

دائرہ  
کمالا قادریه

کتابت  
کتابت

اللہ  
جل جلالہ

تعلیم غوثیہ

قادر، قلندری، سروری، نورانی  
حسنی و حسینی، عالی شان  
منتهی الامکان

برایات  
قادریه

ختم  
قادریه

دعائے  
گنج العرش

قصیدہ  
غوثیہ

درود  
تاج

درود  
اکبر

تسبیح الارشاد حضور پروردگار محمد نام شریف علی شاه صاحب  
تسبیح الارشاد حضور پروردگار محمد نام شریف علی شاه صاحب

خلیفہ حضور پروردگار سلطان اولیاء حضرت حبیب علی صاحب


المعروف بسائیں ٹیکہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
کامرہ شریفیت تحصیل کہوٹہ، ضلع راولپنڈی

غلام نبی  
عفی عنہ

شائع کردہ  
احقر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

قادر مطلق سچلے شائے نے جو کمالات  
حضرت قادر یہ کو عطا فرمائے ہیں  
دائرہ کمالاتِ قادیر



کوہ پشیر شرق و اسگ درگاہ جیلانی

سگ درگاہ میراں شیوخِ اہلِ قریبیانی

احقر غلام نبیِ معنیِ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# فہرست مضامین

۱۳۶۱۴۱۶

صفحہ نمبر	مضمون : اہم مضمون	نمبر شمار
	اشکال متعلق وظائف اور ان کا حل	الف
۳	دائرہ کمالات قادریہ	۱
۴	ہدایات برائے عمل	۲
۶	وظائف قادریہ	۳
۲۲	ختم قادریہ برائے حاجات	۴
۲۲	شجرہ شریف پڑھنے کا طریقہ	۵
۵	حروف نورانی	۶
۶	اسناد برائے دعائے گنج العرش	۷
۷	دعائے گنج العرش	۸
۲۱	اسناد درود اکبر	۹
۵۶	دعائے عقیقہ	۱۰
۵۷	اسناد قصیدہ غوثیہ	۱۱

صفحہ	اسم مضمون	نمبر شمار
۵۸	قصیدہ غوثیہ	۱۲
۵۹	اسناد درود تاج	۱۳
۶۵	درود تاج	۱۴
۸۰	نماز مترجم	۱۵
۹۲	نماز جمعہ	۱۶
۹۵	مستحب اوقات نماز	۱۷
۹۷	شجرہ منظوم	۱۸
۱۰۲	خطبہ اولیٰ جمعہ المبارک	۱۹
	خطبہ جمعہ ثانی	۲۰
	خطبہ اولیٰ عید الفطر	۲۱
	خطبہ اولیٰ عید الضحیٰ	۲۲
	خطبہ ثانی عیدین	۲۳
	خطبہ نکاح	۲۴
	مغمر سوانح حیات و تعارف	۲۵
	حضرت مرشدنا پیر رجب علی شاہ صاحب	

## اشکال متعلق وظائف اور ان کا حل

بہت سے بزرگ حضرات اور علمائے کرام بہت سے وظائف کو مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ ماثورہ نہیں ہیں۔ لہذا نہیں پڑھنے چاہئیں لیکن جو بزرگان دین ان وظائف اور اُراد کے حامل اور عامل ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب بتفصیل ذیل دیا ہے۔

مگر پہلے یہ ضرور خیال تشریف میں رہے کہ کسی شخص کی تالیف کردہ دعائیں اور وظائف ہمارے مشائخ میں داخل وظیفہ نہیں ہو سکتیں جب تک وہ انوار سنت محمدیہ سے منور نہ ہوں۔

مگر یہاں انوار سنت محض محدثین کی اسناد پر منحصر نہیں بلکہ الہامی و وجدانی اور روحانیت نبویہ اور ارشاد کشفیہ محمدیہ سے بھی بخشم یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

پس مجموعہ دلائل الخیرات، اوراد و فتحیہ، دعائے حزب البحر اور دعائے گنج العرش اور درود اکبر وغیرہ یہ سب ایک قسم کے ماثورہ درود وظائف ہیں۔ کسی کو روحانیت سے پایا کسی کو اپنے

فوق و شوق ہیں ادا کیا اور روحانیت اقدس سے منظور کرایا۔ کسی کو الہام اور واردات سے اخذ کیا۔ جیسے محدثین کا جمع کردہ دعاؤں اور وظائف میں شد کی ضرورت ہے۔ اسی لئے ان حضرات میں تلقین۔ اجازت اور شجرہ کا معمول ہے۔

جس طرح محدثین کی جمع کردہ دعاؤں اور وظائف میں بوجہ بعد زیادہ قلت حفظ اور اشاعت کے بعض الفاظ وغیرہ کی کمی بیشی اور بعض جملات کی سوئی ہے۔ اس طرح ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح یہ بزرگ ارشاد فرمائیں اسی طرح عمل کرنا چاہیئے کسی دوسرے نسخہ میں اختلاف معلوم ہو تو شک میں نہ پڑھیں۔

ناچیز

غلام نبی عفی عنہ



## ہدایات برائے عمل

- ۱:- ہر وقت پاک و صاف و با وضو رہنا
- ۲:- پنجگانہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا
- ۳:- گناہ کبیرہ و صغیرہ ظاہری و باطنی سے بچنا
- ۴:- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا
- ۵:- سچ بولنا اور حلال کھانا۔
- ۶:- بہر حالت میں شریعت و سنت کا تابعدار رہنا
- ۷:- قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔
- ۸:- ہر وقت عاجزی و انکساری میں رہنا۔
- ۹:- صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔
- ۱۰:- بہر حالت میں رضی برضائے الہی رہنا۔
- ۱۱:- توبہ و استغفار کرتے رہنا
- ۱۲:- مرشد کا حکم بلا چوں و چرا ماننا

## وظائف و تادریہ

- ۱:- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- ۲:- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
- ۳:- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
- اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
- ۴:- ہر وقت 'مہر حالت' کھڑے بیٹھے۔ لیٹے اللہ کا ذکر دل میں کرتے رہنا
- ۵:- درود شریف تاج، ایک سال کے اندر عتبی مدت میں پڑھ سکے۔ سو لاکھ بار

پڑھنا، بعد ازاں مقرر کردہ روزانہ پڑھنا

۷: تصبیح غوثیہ، ۱۱ دفعہ یا ۲۵ دفعہ روزانہ پڑھنا

۸: دعائے گنج العرش، ۱۱ دفعہ یا ۲۱ دفعہ یا ۴۱ دفعہ یا ۱۴۱ دفعہ ہر رات پڑھنا

۹: درود شریف اکبر، ۱۱ دفعہ یا ۲۱ دفعہ یا ۴۱ دفعہ یا ۱۴۱ دفعہ ہر رات پڑھنا

۱۰: حروف، اب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق

ک ل م ن و ہ لا ء ی سوالا کھ بار پڑھنا۔ پھر ایک ایک حرف سوالا کھ بار پڑھنا۔

جو شخص ان حرفوں کو پڑھے گا۔ اس نے سوالا کھ قرآن مجید ختم کیا۔

## ختم قادریہ برائے حاجات

بسم اللہ شریف ایک ہزار دفعہ، کلمہ شریف ایک ہزار دفعہ اور درود شریف

گیارہ سو دفعہ پڑھ کر اپنے سلسلہ کے بزرگوں کو ایصالِ ثواب کر کے دعا مانگیں

## شجرہ شریف پڑھنے کا طریقہ

گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کر ایصالِ ثواب کر کے شجرہ مبارک

پڑھ کر دعا مانگیں

احقر غلام نبی عقی عنہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# حُرُوفِ نُورَانِي

ا	ب	ت	ث	ج
ح	خ	د	ذ	ر
ز	س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	ف	ق
ك	ل	م	ن	و
ه	لا	ع	ي	

# اسناد دعائے گنج العرش

صوفیائے کرام اور اولیائے عظام سے مروی ہے، کہ  
 جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا جو عرش معلیٰ پر لکھی ہوئی تھی  
 حکیم رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی  
 اسی واسطے اس کو دعائے گنج العرش کہتے ہیں۔ جو  
 شخص اسے ہر روز بلا تاغہ تلاوت کرتا رہے گا۔ اس کو اللہ جل  
 جلالہ کی طرف سے پانچ چیزوں کا خزانہ عطا ہوگا۔

اول حصول مطالب دینی و دنیوی۔ دوم آسانی مہمات و  
 حل مشکلات۔ سوم کشائش رزق و دفع تنگی۔ چہارم۔ مقہوری  
 دشمن اور مغلوبی شیطان۔ پنجم عفو ظلی از جمیع بلیات و آفات  
 پس ہر مومن بھائی پر لازم ہے کہ اس دعائے متبرکہ کو ہر روز تلاوت  
 قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے کا التزام رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے جملہ  
 مطالب و حاجات برآئیں گی۔ اور اس کے ہر ایک کام میں برکت ہے گی۔



# دُعَايُ كَبِيرَاتِ الْعَرْشِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ نہایت پاک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْحَبَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب اصلاح کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَفْوَافِ الرَّحِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا مہربان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْحَكِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشش والا حکمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْوَفِيِّ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ اور وعدہ وفا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے باریک بین خبردار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُودِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز عبادت کے لائق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَفُورِ الْوَدُودِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا دوست رکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَكِيلِ الْكَفِيلِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کارساز ذمہ دار کاموں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّقِيبِ الْحَفِيطِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے نگہبان محافظ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سدا رہنے والا قائم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُمِيتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ کرنے والا مارنے والا



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ یعنی ذات سے قائم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِئِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا درست کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عالی شان عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ایک ذات و صفات میں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ أَمُوءٍ مِّنْ أُمَّهَاتٍ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے امن دینے والا نگہبان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَبِيبِ الشَّهِيدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے دوست کمال علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا بار بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سب سے اول اور قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْأَخِيرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر اور چھپا ہوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا بلند

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پورا کرنے والا حاجتوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بڑا مہربان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عرش بڑے کا رب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا پروردگار عالی مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانَ السُّلْطَانِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر غلبہ والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سنیے والا دیکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اکیلا غالب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے علم والا حکمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّاتِرِ الْعَفَّارِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عیب چھپانے والا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان بدلا دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا سب سے بزرگ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْعَلَّامِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خبردار وسیع علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے شفا دینے والا کفایت کرنے والا



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْبَارِقِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عظمت والا سدا رہنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز و ایک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ خَائِقِ الْمَخْلُوقَاتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے مخلوق کا پیدا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَّاقِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا رزق دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا کھولنے والا رزق کا علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَنِيِّ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بے پمناہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغُفُورِ الشَّكُورِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا تدرمان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْعَلِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عظمت والا علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جسمانی اور روحانی بادشاہت کا مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عزت اور عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْهِبَةِ وَالْمُدْرَةِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے دہبہ اور قدرت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بزرگی اور بڑائی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّارِّ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپانے والا (عیبوں کا) عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جاننے والا غیب کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خوبوں والا بزرگی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْقَدِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے حکمت والا قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّامِعِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا پھرہ پوش

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سننے والا جاننے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ بڑا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلَامِ السَّلَامِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا دانا بادشاہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَلَامِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ بڑے علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ مدد دینے والا



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الرَّحْمَنِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ بٹا مرمان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَرِيبِ الْحَسَنَاتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خوبیوں کے نزدیک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَلِيِّ الْحَسَنَاتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خوبیوں کا دوست

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّابِرِ السَّامِرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بردبار عیب پوش

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ السُّورِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے آجائے کا پیدا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُبْتَلِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ عاجز کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشُّكُورِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کمالات والا قدر دان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْإِئْتِيبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بزرگی والا ظاہر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمَخْلُصِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بالکل بے عیب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سچے وعدے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِينِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سچا ظاہر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قوت والا استکار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا غالب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ جو نہیں مرتا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ الْغُيُوبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپی باتوں کا جاننے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّارِعِ الْعَبُودِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عیبوں کا چھپانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغُفْرَانِ الْمُسْتَعَانَ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا مدد طلب کیا گیا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام جہانوں کا پرمودگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الشَّارِعِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان پردہ پوش

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْغَفَّارِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحم والا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْوَقَّابِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بہت عطا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا قدرت ظاہر کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعُقْرَانِ الْحَلِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بردبار



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَلِكِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہی کا مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَارِي الْمَصُورِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا صورت بنانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ، پاک ہے غالب زبردست

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زبردست بڑائی کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑی پاکی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے فرشتوں اور روح کا رب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْأَلَاءِ وَالنِّعَمَاءِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک بخششوں والا اور نعمتوں والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَاصِمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ پورا کرنے والا مقصد

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ الْحَمَّاتِ الْمَتَّانِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحمت کرنے والا احسان کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدَمُ صَفِيٌّ لِلَّهِ

ہیں کوئی معبود سوا اللہ کے آدم علیہ السلام اللہ کا صفی (بمگزیدہ) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُوحٌ نَجِيٌّ لِلَّهِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نوح علیہ السلام نجی (بہرانہ) ہے اس کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ حَبِيبُ اللَّهِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ابراہیم ؑ اللہ کا خلیل (دوست) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِسْمَاعِيلُ ذَرِيْعَةُ اللَّهِ

ہیں کوئی معبود سوا اللہ کے اسمعیل ؑ اللہ کا ذریعہ (اُس کی راہ میں) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِمٌ لِلَّهِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے موسیٰ ؑ اللہ کا کلیم (مکلام) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَاوُدُ خَلِيفَةُ اللَّهِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے داؤد اللہ کا خلیفہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَيْسَىٰ رُوحُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عیسے علیہ السلام اللہ کی روح ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کا رسول ہے

وَهِيَ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَلِئُورِ

اور اللہ کا درود اس کے بہترین خلقت پر اور عرش کے

عَرْشِهِ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

نور پر تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہمارے

حَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا وَسِنْدِنَا وَشَفِيعِنَا

حبیب اور سردار، اور سہارے اور شفاعت کرنے والے

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

اور آقا محمد صاحب پر اور اس کی آل اور اصحاب

أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

سب پر اپنی رحمت کے ساتھ سب سے بڑھ کر

الرَّاحِمِينَ ط

رحم کرنے والے

# اسناد درود اکبر

بزرگان سلف سے صحیح روایت میں آیا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص صدق دل اور نیت خالص سے اس درود معظم کو پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خراب میں مشرف ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مذروع اللہ کے نام سے مہربانی کرنے والا ہے نہایت رحم والا

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

درود اور سلام تجھ پر اے رسول اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ

درود اور سلام تجھ پر اے نبی اللہ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

درود اور سلام تجھ پر اے حبیب اللہ کے



الصلوة والسلام عليك يا خليل الله

درود اور سلام تجھ پر اے خلیل اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا صفي الله

درود اور سلام تجھ پر اے برگزیدہ اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا خير خلق الله

درود اور سلام تجھ پر اے بہتر مخلوقات کے

الصلوة والسلام عليك يا مكي الله

درود اور سلام تجھ پر اے مکی اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا قرشي الله

درود اور سلام تجھ پر اے قبیلے قریش سے بندے اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا مدني الله

درود اور سلام تجھ پر اے مدنی اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا من احمارة الله

درود اور سلام تجھ پر اے وہ شخص جو اس کو پسند کیا اللہ نے

الصلوة والسلام عليك يا من عظمه الله

درود اور سلام تجھ پر اے وہ شخص کی عظمت دی تجھ کو اللہ نے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے خلیفہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَضْرَةَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے حاضر ہونے والے دربار میں اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے برگزیدہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے برہان اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے رحمت اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے نور اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ رَسُولِ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے محمد رسول اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

درود اور سلام تجھ پر اے صاحب بادشاہی اور معراج کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْكُوْتْرِ

درود اور سلام تجھ پر اے صاحب حوض اور کوثر کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّقَاعَةِ

درود اور سلام تجھ پر اے صاحب شفاعت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعْمَةِ

درود اور سلام تجھ پر اے صاحب نعت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ النَّبِيِّ وَالرِّسَالَةِ

درود اور سلام تجھ پر اے ختم کرنے والے نبوت اور پیغمبری کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدَنِ

درود اور سلام تجھ پر اے نبی مدینے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِ

درود اور سلام تجھ پر اے نبی حرم والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِ

درود اور سلام تجھ پر اے نبی عرب کے رہنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْجَحَازِ

درود اور سلام تجھ پر اے نبی حجاز کے

الصلوة والسلام عليك يا نبي التهامي

درود اور سلام تجھ پر اے نبی تہامی والے

الصلوة والسلام عليك يا نبي الهاشمي

درود اور سلام تجھ پر اے نبی ہاشمی

الصلوة والسلام عليك يا نبي القرشي

درود اور سلام تجھ پر اے نبی قرشی

الصلوة والسلام عليك يا نبي الزبكي

درود اور سلام تجھ پر اے نبی زبکی

الصلوة والسلام عليك يا نبي الامي

درود اور سلام تجھ پر اے نبی امی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے

اللهم صل على محمد سيد المرسلين

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رسولوں کے

اللهم صل على محمد سيد النبيين

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نبیوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مومنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پدمیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْلِحِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں صلاحیت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّادِقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سچوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْذِقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں صبر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں گواہوں کے

سَيِّدِ الْمَشْهُودِينَ

جو سردار ہیں حاضرین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُرَاطِينَ

جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُنَجِّينَ

جو سردار ہیں خلاصی پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُفْجِحِينَ

جو سردار ہیں خلاصی پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُجْبِبِينَ

جو سردار ہیں قبول کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ

جو سردار ہیں زاہدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ التَّائِبِينَ

جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاطِنِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں دہشتے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں قیام کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّكَعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رکوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نمازیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَارِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں قاریوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بیٹھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَرْهَادِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں زاہدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَقِّنِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں یقین کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ہمزادوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِعِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں قناعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں حافظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَالِعِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں کم کھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں حمد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مرشدوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ النَّاطِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں دیکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْمُبَارِكِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں برکتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْوَحْدَانِ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں موحدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْقَائِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں بولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْمَنْصُورِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں مدد دے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ النَّاصِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں مدد دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الظَّافِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں نفع مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

سَيِّدِ الْوَارِثِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں وارثوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْفَرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں فتمندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْزُوقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رزق والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاعِبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رغبت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَشَفِّقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں شفقت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِحِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَّابِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَأْوُفِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں الفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْبِسِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عابدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسَاكِينِ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مسکینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَافِقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں توفیق والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نرمی والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مراد کو پہنچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَامِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَائِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں اتارنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ہم رازوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں طاقت مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّابِعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تابعیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں شکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پاکیزگی پسند کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطِيعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تابعیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُومِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رحم کئے ہوئےوں کے



سَيِّدِ الْمَغْفُورِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں مغفوروں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الطَّالِبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں طالبوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُطْلُوبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں مطلوبوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں پاکوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الصَّوَامِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں روزہ داروں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْقَوَّامِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں قیام کرنے والوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْأَوْلِيَّيْنَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْوَاصِلِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سرفار ہیں جوڑنے والوں کے

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُحِبِّينَ

جو سردار ہیں محبت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْمَحْبُوبِينَ

جو سردار ہیں دوستوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْمُرُودِينَ

جو سردار ہیں وارد ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْمُقْبُولِينَ

جو سردار ہیں مقبولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْمُشْتَرِقِينَ

جو سردار ہیں مشتاقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْعَاشِقِينَ

جو سردار ہیں عاشقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْمُعْشُوقِينَ

جو سردار ہیں معشوقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

سَيِّدِ الْعَارِفِينَ

جو سردار ہیں عارفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں واعظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَذْكُورِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ذکر کئے گئے لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْعَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تو نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْظَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْلِغِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تبلیغ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَادِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں منادی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَدِّبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ادب کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْسِّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تفسیر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سکھانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاقِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عقل مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَازِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خیر نیک کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَجْوَدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سخیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عبادت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَمْعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سننے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْرَبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مقربوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْرَضِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں رغبت دلانے والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْحَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خوش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَرِبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نزدیک والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَارِبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پہنچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسِيحِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مسیح پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدِّسِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں قرآن پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأُمُومَلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں امیہ دلائے عجموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تحقیق والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أُمَمٍ قَقِيْنِ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں دانشمندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بلائے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّائِمِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نیکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّائِكِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں کاملوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَامِلِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں کاملوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پہلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْبُوْقِيْنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پچھلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْصُومِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْفُوظِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں حفاظت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّافِعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفَعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعْظِمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَلَّفِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں الفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَظْهَرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں غائبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَقِّبِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں توفیق والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَافِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مہات کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْتُولِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں آزمائش کئے گئے کیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْرَوْنِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں غمناکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْرُورِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خوشی والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں آنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْتَلِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں متزلزل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَمْتِينَ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں امن والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَوِّضِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تواضع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَكِّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں فکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجْلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں دعا کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجِدِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں گوشہ نشینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَاخِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مخبر نداءوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَمِّلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تحمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں دارغ لگانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاسِمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تقسیم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقِيمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مقیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَافِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مسافروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَاجِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مہاجروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں غلبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغَافِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بخشنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْرَهِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں حجت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں جہانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نرم دلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خنزیر کونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاضِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں راضی ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّعُوفِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں مہربانی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَهَجِدِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تہجد پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَعْفِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں راضی ہونے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بچنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ذمہ داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْمُدَّ بَرِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُدَّ بَرِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں دین داروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأُمُوفِيِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں راضی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَادِحِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں صفت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَرْفَعِيِّينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بلند رتبہ والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خوشخبری دینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذَرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَبِّرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں تدبیر کرنے والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْشَعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں نیک نیتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں غمگینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں ذکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَافِعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں عاجزی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں عاجزی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں امیدواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں تامل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْرَعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمدؐ صاحب پر جو سردار ہیں بہتر گزاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَالِصِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں خالصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَرِّعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پرمہیزگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْهَرِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں عزت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُكْرَمِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں شریفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں نجات والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْجَعِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں بہادروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَفْضَلِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں فضیلت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْأَنْوَارِ

جو سردار ہیں نور والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمَعْرُوفِينَ

جو سردار ہیں نیکو کاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ السَّالِكِينَ

جو سردار ہیں سالکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُعَاهِدِينَ

جو سردار ہیں ہدایت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْهُدَاةِ

جو سردار ہیں ہدایت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُهْدِيِّينَ

جو سردار ہیں ہدایت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُقْبِسِينَ

جو سردار ہیں برگزیدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمَمَكِنِينَ

جو سردار ہیں مرتبہ والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں فوجیت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر جو سردار ہیں کھولنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا بَدَّلَتْ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ زمین کے جب بدل جاوے گی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الصِّدْرِ إِذَا حَصَلَتْ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ سینوں کے جب حاصل کئے جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَسَنَاتِ إِذَا أَظْهَرَتْ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ نیکیوں کے جب ظاہر کی جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّئَاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ برائیوں کے جب بدلی جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّئَاتِ إِذَا

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ برائیوں کے جب

أَنْزَلْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَاجَاتِ

جھوٹی جاویں اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ حاجتوں کے



إِذَا قُضِيَتْ إِلَيْهِمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَهُ

جب قضا کی جا دیں لے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر ساتھ

الْجَنَّةِ إِذَا أَدْلِفَتْ إِلَيْهِمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بہشت کے جبکہ قریب کی جا دے لے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر

مَعَ النَّعْمِ إِذَا زُوِّجَتْ إِلَيْهِمْ صَلَّ

ساتھ جانوں کے جبہ زوج بنائی جاویں لے اللہ درود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْأَمِينِ عَلَى وَحْيِكَ صَلَوَةٌ

محمد صاحب پر جو امانت دار ہیں تیری وحی پر درود

لَا حُدَّ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى إِلَيْهِمْ صَلَّ

بے حد اور بے انتہا لے اللہ درود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

محمد صاحب پر ساتھ اس عدد کے کہ تجھے معلوم ہے۔

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اور آل پر ہمارے مہربان محمد صاحب کے اور برکت اور سلام

إِلَيْهِمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا صَلَّيْتُ

لے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر دگت جتنا کہ درود

عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُصَلِّينَ مِنَ السَّالِفِينَ

پڑھوایا گیا ہے اس پر سب نمازی

وَالْمُؤَخَّرِينَ أُنْعَافًا مِّنَّا عَنَّا

اور : کھیلے دیکھنے

أَلْفَ أَلْفِ أَلْفٍ مِّنْ أَلْفِ أَلْفٍ وَهَلْ

سہمی لاکھ اور کئی لاکھ اور درود

كَذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

جس طرح کئی لاکھ اور سب نبیوں کے

وَالرُّسُلِينَ وَعَلَىٰ مَلَائِكَتِكَ أَهْلِي

اور رسولوں کے اور اور فرشتوں پر، مقربوں کے

وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ ط اللَّهُمَّ

اور جو تیری عبادت کرتے ہیں سب پر اللہ

حَبِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ لِيَسْكُنَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر اور آل محمد صاحب پر گنتی

كُلِّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

سب چیز کی جو دنیا میں ہے اور آخرت میں

حَمَلَتْهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآءِهِ

رحمت اللہ کی اور فرشتوں اور نبیوں کی

وَمِنْ سَلْبِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور تمام خلقت کے محمد صاحب پر

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

جو مرسل ہیں رسولوں کے اور پیغمبروں کے

وَمُخَافَتِهِ الْبَيْتِ وَقَائِدِ الْغُرِّ

اور ختم کرنے والے نبیوں کے اور پیشرو روشن

الْبَيْتِ وَشَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ

پیشوا کی داؤں کے اور شفیع گنہگاروں کے

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى

اور رسول خدا تعالیٰ کے اور ان

أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

کی آل اور اصحاب اور اولاد اور

بَيْتِهِ وَأَخْفَادِهِ أَجْمَعِينَ ط اللَّهُ

گھر والوں اور نواسوں سب پر ط اللہ

صَلِّ عَلَى حَبْرِيٍّ وَمِيكَائِيلَ وَ

درود بھیج ادبہ جبرائیل اور میکائیل اور

إِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَمُنْكَرَ

اسرائیل اور عزرائیل اور منکر

وَنَكِيرٍ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

اور نکیر اور فرشتوں مقربوں

وَعَلَى حَمَلِهِ الْعَرْشِ وَالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ ط

اور اٹھانے والے عرش کے اور کراماً کاتبین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود بھیج ادبہ سردار ہمارے محمد اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ادبہ آل سردار ہمارے محمد کے اور برکت کر اور سلام

صَلَاةٌ يَخْتَارُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ

بھیج ایسا کہ درود خلاصی دے اس سے ہم تمام کو خوفوں سے

وَالْأَفَاتِ وَلَقَضَى لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

اور آفتوں سے اور پھڑرا کرے تو ہمارے لئے ساتھ اس کے تمام

الْحَاجَاتِ وَتَهْرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ

حاجتوں سے اور پاک کر ہم کو ساتھ اس کے تمام برائیوں سے

وَتَرَفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ

اور بلند کر ساتھ اس کے ہم کو نزدیک اپنے اعلیٰ درجوں پر اور

تَبْلِغْنَا بِهَا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ

پہنچا ہم کو اس سے منزل مقصود پر تمام

الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ط

نیکیوں سے سبچ دینا اور آخرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود بھیج محمد صاحب پر اور آل محمد صاحب پر اور

بَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

برکت بھیج اور سلام بے حد اور درود بھیج سب نبیوں پر اور

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ

رسولوں پر اور اپنے بندوں نیکیوں پر اور سلام

لَسَلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ط اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْئَلُكَ

بے حد اے اللہ میں مانگتا ہوں



يَجِيَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ أَنْ تُكْرِمَنِي بِرُءُوسِهِ

بطعیں اس درود کے یہ کہ عزت دے مجھے ساتھ دیدار

مَحْمَدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ فِي الْمَنَامِ وَ

محمدؐ خاتم نبیوں کے خواب میں اور

أَنْ تُغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّْ وَإِلَّا سَتَأْذِيَّ

یہ کہ بخشنے تو مجھے اور میرے ماں باپ اور استاد

وَلِجَمِيعِ الْمَوَدِّعِ مَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور تمام مومنوں مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور عورتوں کو جو زندہ ہیں ان سے یا مردہ

وَجَبِّرْ لِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبْ لِي

اور بچھا مجھے اپنے عذاب سے اور واجب کر میرے

رُحْنَوَانِكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

لئے اپنی رضامندی اور سلام بہت بہت ساتھ

بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

رحمت اپنی کے لئے بڑے رحم والے رحم والوں سے

## وعائے عقیقہ

اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ (اس جگہ بچہ کا نام لے)  
 دُمَهَا يَدَيْهِ وَ لَحْمَهَا يَدْحِمُهُ وَعَظْمُهَا  
 بَعْظُمُهُ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا  
 بِشَعْرِهِ (اور اگر لڑکی ہے تو) يَدْحِمُهَا - يَلْعَمُهَا  
 بِعَضْمِهَا - بِجِلْدِهَا - بِشَعْرِهَا (کہے) اِنِّي  
 وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْاَرْضَ مِنْ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  
 اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي  
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  
 اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اللَّهُمَّ مِنْكَ  
 وَلَكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُوتٌ كَبْرُوتٌ

## اسنادِ قصیدہ غوثیہ

اسنادِ قصیدہ متبرکہ حضرت غوث الثقلین شاہ عبدالقادر جیلانی  
 قدس سرہ کہ حالت استغراقِ ربانی میں زبان گوہر بیان سے برآمد ہوا۔  
 خواص اس کے بہت ہیں، پہلے یہ کہ جو اس قصیدے کی مداومت  
 کرے اور ہر روز گیارہ بار پڑھے خدا کے نزدیک مقبول و محبوب ہوگا  
 دوسرے یہ کہ یہ قصیدہ اگر کوئی پڑھے قوتِ حافظہ اس کی ایسی قوی ہوئے  
 کہ جو کچھ پڑھے یا سنے یاد ہو جاوے، تیسرے یہ کہ اس قصیدہ کو درود کرے  
 اور مداومت کرے علم عربی میں اس کو بہارت پیدا ہو۔ چوتھے یہ کہ جو  
 اس قصیدے کو کسی مہم یا مقصد کے لئے چالیس روز پڑھے جلد نہ گزرنے  
 پائے کہ مقصد پورا ہو جائے۔ پانچویں یہ کہ جو اس قصیدے کو نگاہ کے  
 سامنے رکھے اور ہر روز تین بار پڑھے اور اگر پڑھنا نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے  
 سے پڑھوا کر سننے اور اپنے پاس سے جہانہ کرے اور سچے اعتقاد سے  
 ہر صبح کو اس پر نظر کرے انشاء اللہ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ  
 کو خواب میں دیکھے اور امیروں کے سامنے مقبول ہو۔ چھٹے یہ کہ جس

تبت اور مطلب سے پڑھے حاصل ہو اور طریقہ اس کے پڑھنے  
 کا یہ ہے کہ سچے اعتقاد اور صدق دل سے تھوڑی شیرینی پر حضرت  
 کی فاتحہ لے کر درود شریف مندرجہ ذیل تین بار پڑھے اور یہ  
 قصیدہ شریف سچے دل سے پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْبُحُوْدِ وَالْاَلْوَامِ  
 مَتَّبِعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

## قصیدہ غوثیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَقَانِي الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِ  
 فَقُلْتُ لِحَمْرَتِي مَخْوِي تَعَالِ

پیانے عشق نے مینوں پیلے

جو آئے ادہ سخن دی وصل والے  
 کہیا اس خمر نون پھر میں بلا کے  
 جو میں دل آ قدم جلدی اٹھا کے

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كَعُوْسٍ  
 فَهَبْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمُوَالِ

میرے دل آ گیا اوہ خمر فی الحال  
 ہزاراں جام اندر تینریاں نال  
 اوہ ہنوں میں مست ہو کے نوش کیستا  
 مگر ریل ریل کے یاراں نال پیستا

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لَمُّوْا  
 بِجَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ



کہیا ہیں غیر قطباں نون جو آؤ  
 میری طرف سے سبھی رل رل سدھاؤ  
 تسیں سارے ہوؤ داخل میرے تال  
 ہوؤ تابع میری سارے میرے مہال

وَهُمَّوَا وَانْتَرَلِيُوا اَنْتُمْ جُنُودِي  
 فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَارِي مَلَالِ

میرا ہمت پیو کا سے فضل تھیں  
 تسیں سب میرے لشکر ہو اصل تھیں  
 دیئے ساقی نے پر کمر کے پیالے  
 وصل نے عشق تھیں میرے موالے

شَرِبْتُمْ فُضْلِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي  
 وَلَا يَنْلِئُكُمْ عَلْوِي وَإِصْبَالِ

ہویا میں مست جاں اس مخزنوں نوش  
تسین ہوئے میرے جو ٹھے تھیں بے ہوش  
مگر درجہ میرا ہے بہت عالی  
بلی نہیں تساں نہیں اوہ کمالی

مَقَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَ لِكِنْ  
مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالٍ

تساڑے واسطے عالی ہے منزل  
مقام قرب اندر شان حاصل  
مگر درجہ میرا عالی پچھا نو!  
میری منزل ہمیشہ دُور جانو

أَنَا فِي حَضْرَتِ التَّمْرِيبِ وَ حُدِي  
يُصِرُّ فِينِي وَ حَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

بچی درگاہ دے اندر میں کھلویا  
 حضورِ قریب مینوں خاص ہویا  
 مینوں کردا ہے رب کچھ پورا پورا  
 اوہ کافی ہے مینوں صاحب زور

أَنَا الْبَارِزِيُّ أَتَّهَبُ كُلِّ شَيْخٍ  
 وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِ

مینوں ہر شیخ کارن باز چالوں  
 مری اچی اداری ہے پچھانوں  
 ہونی کھڑے دلی لوں ایہہ کرامت  
 میری مانند خاص الخاص رحمت

كَسَانِي خِلْعَةً يَطْرَازُ عَزْمِ  
 وَتَوَجَّيْتُ بَيْنَ الْكَمَالِ

خدا مینوں عجب پوشاک پہنایا  
 اولوالعزمی دی بھی پہ دوسرے پہنایا  
 کمالیت وا دلورس تاج پہنایا  
 نہ کیتس غنیر وا محارق پہنایا

وَ أَطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّهِ الْيَوْمِ  
 وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي كَسْوَالِي

خدا مینوں عجب درجہ پہنایا  
 قدیمی بھید وا واقف پہنایا  
 میرے گل ہار عزت پہنایا  
 میں جو کچھ منگیا اللہ تعالیٰ پہنایا

وَوَلَّأَنِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا  
 فَكُنِّي نَافِذُنِي فِي كُلِّ حَالٍ

وہی سناؤ خود مختار کیتس  
 لہو لہیاں اُتے مختار کیتس  
 میرا ہر وقت ہے ہن حکم چاری  
 میری عزت بنانی آپ باری

وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا فِي بَيْتِي  
 لَأَسْأَلُكَ كُلَّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ

ہیں اپنا بھینسے درجے ندیاں تے ڈالال  
 نہ چھٹسں جھال میری اسے کمالاں  
 اتہانہ آپ ناموجود ہووے  
 نہیں وقح بنگھرے نابود ہووے

وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا فِي بَيْتِي  
 لَأَسْأَلُكَ كُلَّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ



اگر ڈالاں میں اپنے بھید تائیں  
 پہاڑاں پر کسے دیلے کدائیں  
 ہوں سب ریزہ ریزہ ریت فی الحال  
 میرے مولادی قدرت کاملہ نال

وَلَوْ الْقِيَتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتِ  
 لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمُؤَلَّى تَعَالِ

میں اپنا بھید جے مرے تے ڈالاں  
 اگرچہ اس موئے نزل ہوں سالاں  
 ہوں زندہ اٹھے اوہ مردہ فی الحال!  
 میرے مولادی قدرت کاملہ نال

وَلَوْ الْقِيَتُ سِرِّي فَوْقَ نَارِ  
 لَحَمِدَتْ وَأَنْطَقَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ

اگر میں بھید اپنا آتش اوپر  
 کدی ڈالاں مجھے آتش سرسبز  
 ہووے گرمی تمامی اس دی دُور  
 ہووے تیزی تکبر اُسدا سب چور

وَمَا مِنْهَا شُورٌ أَوْ دُحُورٌ  
 ثُمَّ وَتَقْضَىٰ إِلَّا آتَالُ

جہڑے آون ہینے تے زمانے  
 ہمیشہ گزروے اوپر جہانے  
 سبھے ہیں آوندے اول میرے پاس  
 پکچھوں دنیا دے اندر جا چڑھن خاص

وَتَحْيِي بِنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي  
 وَتَعْلِي بِنِي فَأَقْصِرْ عَنِ جِدَالِ

میںوں دنیاندی دلون خبر ساری  
 ہووے جو نیک و بد دنیا تے جاری  
 میںوں دسن تمامی حال تے چال  
 نہ کرتوں بحث تے جھگڑے میرے نال

مُرِيدِي هُمْ وَطِيبٌ وَاشْطَحَ وَتَعَنِي  
 وَافْعَلُ مَا تَشَاءُ فَاِلَا سَمُ عَالِ

مرید یا میریا ہمت عیاں کر  
 خوشی تے بے نیازی ہے تیرے گھر  
 او ہو کچھ کر جو چاہے دل تیرا خاص  
 جو میرا نام عالی ہے تیرے پاس

مُرِيدِي لَا تَحْفَ وَاَللَّهُ رَبِّي  
 عَطَانِي رِفْعَةً نَزَلْتُ الْمَسَابِ

مریڈا میریا کچھ خوف نہ کر  
 خدایا میرا ربی ہے کراہے  
 مینوں بخشش خدا تھیں عام ہوتی  
 بلندی تدری انعام ہوتی

طُوبَىٰ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُفَّتْ  
 وَشَاءُوسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَأَ

زمین آسمان تے میکر تقارے  
 وجے جاں کرم کیتا کرن ہارے  
 نقیب اقبال دے مینوں ملے ہن  
 جو پوشا پوش کر دے پیش چیلن

بِلَادِ اللَّهِ مَلِكِي تَحْتَ حُكْمِي  
 وَدَقَّتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَا

خداوے شہر میرے ملک ہوتے  
 جو میرے حکم آگے زیر ہوتے  
 ہو یا ہے وقت میرا صاف اول  
 ہو یا فر دل میرا بیچھوں مکمل

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا  
 كَحُرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ الْبِصَالِ

خداوے شہر جتنے بین ساکے  
 جو ہفت اقلیم کے اندر لپساکے  
 سبھے مینوں اکٹھے نظر آوے  
 جیویں اک اڑھیوں وا دانہ دکھائے

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى بَدَرْتُ قُطْبًا  
 وَنَلَيْتُ السُّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي



علم و ادب کیتا میں نہایت  
 جو تارہیں ہو گیا قطباں ولایت  
 ہوتی حاصل ہمیشہ با ارادت  
 مینوں مولی الموالی تھیں سعادت

رِحَالِي فِي هَوَا جِرِهِمْ صِيَامٌ  
 وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّيَالِي

میرے شاگرد دل یقین میں قائم  
 جو گرمی سخت اندر ہیں صائم  
 اندھیری رات اندر خوب چمکن  
 جو ہیں موتی عجب مرغوب چمکن

وَكُلُّ وَدِيٍّ لَّهِ قَدَمٌ وَرِئِي  
 عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ

جہاں میں ہر ولی صاحب قدم ہے  
 جو ہے رہبر دے پچھے بے الم ہے  
 قدم میرا ہے حضرت کے قدم پر  
 میں اس دی تابع ہاں اوہ ہے رہبر

مُرِيدِي لَا تَخَفُ وَائِشِ قَائِمِي  
 عَزُومُ قَاتِلُ عِنْدَ الْقِتَالِ

مرید! میرا نہ ہو توں مضطر  
 کسے دشمن تحقیق ہرگز خوف نہ کر  
 جو میں تحقیق ہاں طاہد ا دلاور  
 تیرے دشمن توں کرساں قتل اے پر

أَنَا الْجَبَلِيُّ مُحَمَّدِيُّ الدِّينِ إِسْمِي  
 وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ

وطن میرا پچھانو ملک گیلان  
 لقب میرا ہے محی الدین جیلان  
 میری عظمت دے جھنڈے ہیں برتر  
 بزرگی دے پہاڑاں نوں سر اتر

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخْتَدِعُ مَقَامِي  
 وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ

حسنؑ دی نسل تھیں میوں پچھانو  
 میری جاگت تھیں مخدع پچھانو  
 قدم میرا ہے گردن اولیاء پر  
 خدا دے لوک جھڑے ہیں یکسر!

وَعِنْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي  
 وَجَدُّي صَاحِبِ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

پچھانیں نام میرا خاص تے عام  
 جو عبد القادر اصلی ہے میرا نام  
 میرا نانا تے دادا بے زوالی  
 ہوئے ہیں صاحب عین الکمالی

تتمت

قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجُبَارِ فِينَا  
 لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَالِ مَسَالٌ  
 لِأَنَّ الْبَالِ يَعْنِي عُنُقِي  
 وَأَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لِأَيَّازِ

## اسناد درود تاج

خاصیتیں اس درود شریف کی بے شمار ہیں احاطہ ان کا اس پرچہ  
مختصر میں دشوار، مگر یہاں بہ سبیل اعجاز کچھ بیان ہوتا ہے۔ منجملہ ان کے  
عمدہ تربات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمال بے مثال آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آرزو جان و دل سے رکھتا ہو۔ تو  
عروج ماہ میں شب جمعہ کو بعد فرائع نماز عشاء کے با وضو جامہ پاک و  
خوشبو وارپن کے ایک سو ستر بار اس درود شریف کو پڑھ کر سو رہے  
گیارہ شبیں اسی طرح پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ شرف زیارت بابرکت  
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ اور واسطے صفائی  
قلب کے ہر روز بعد نماز صبح سات مرتبہ بعد عصر تین مرتبہ اور بعد  
نماز عشاء تین مرتبہ درورکھے اور واسطے دفع سحر اور آسیب جن  
شیاطین اور وبال اور امراض چھپکے اور جو مرض کہ سوا ان کے ہوگیارہ  
مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور واسطے محفوظ رہنے و نمنوں اور ظالموں اور حاسدوں  
اور حاکموں کے شر سے اور واسطے دفع رنج و افساس کے چالیس شبیں بعد



نماز عشاء کے اکتالیس بار پڑھے اور کثرت رزق کے واسطے سات سات بار  
 بعد نماز صبح کے ہمیشہ وظیفہ رکھے اور عقیقہ یعنی بانجھ عورت کیلئے  
 اکیس خرموں پر سات سات بار روم کرے ہر روز ایک خرمہ اس کو  
 کھلائے پھر بعد غسل و طہارت حیض کے اس سے ہم بستری ہو خدا کے  
 فضل سے فرزند صالح پیدا ہوگا اور اگر عورت حاملہ کو کچھ غلغل ظاہر ہو تو  
 سات دن تک سات مرتبہ متواتر پانی پر دم کر کے پلاوے اور واسطے  
 مواصلت طالب و مطلوب اور ہر مقصود کے بعد نصف شب کے با وضو  
 چالیس مرتبہ صدق اور یقین دل سے پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ مطلب ولی حاصل ہوگا

درود تاج ————— یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

م شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَوَالِدِنَا

اے خدا رحمت کاملہ نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور ملک ہمارے

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّارِحِ وَالْمَعْرَاجِ

محمد صاحب کے جو صاحب تاج اور معراج

وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ط دَا فِعِ الْبِلَاءِ

اور براق اور نشان کے ہیں دُور کرنے والے سختی

وَالْوَبَاءِ وَالْمَحْطِ وَالسَّرِيحِ وَالْأَلَمِ ط

اور وباء اور محط سال اور بیماری اور درد کے

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ ط

نام ان کا لکھا گیا ہے بلند کیا گیا ہے شفا عت کیا گیا ہے

مَنْقُوشٌ فِي الْوُجْهِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

نقش کیا گیا ہے بیچ لوح اور قلم کے سردار ہیں

الْعَرَبِ وَالْعَجْمِ ط جِسْمُهُ مَقْدَسٌ ط

عرب اور عجم کے جسم ان کا بہت پاک

مَعْرُومٌ مَطْهَرٌ مَنُورٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ط

نور شہودار پاکیزہ روشنی بیچ خانہ کعبہ اور حرم کے

شَيْسِ الْمُنْحَى ط يَدُ الرَّحْمَنِ ط

آفتاب پاشت کے ہاتھ اب اندھیری رات کے

صَدْرِ الْعَلِيِّ ط نُورِ الْهُدَى ط كَهْفِ

صدر نشین بلندی کے نور راہ راست کے پناہ

الْوَرَايَ ط مَضِيَّاحِ الطَّلَمِ ط جَبِيلِ

مخلوقات کے جراح تاریکیوں کے نیند

الشَّيْمِ ط شَفِيْعِ الْأَسْمِ ط حَاجِبِ

عادتوں والے بخترانے والے اشرف کے صاحب

الْحُرُودِ وَالْكَرَمِ ط وَاللَّهُ عَامِمَةٌ

بخشش اور بزرگی کے اور اللہ بگھبان سے ان کا

وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالسَّبْرُ

اور جبریل خدمت گزار ہے ان کا اور سبْر

مَرْكَبِهِ وَالسَّعْرَاحِ سَفْرُوحِ

سواری سے ان کی اور سعراج سفر سے ان کا

وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَ

اور سدرة المنتهى (جو بلندی سے آسمان پر) مقام ہے ان کا اور

قَابِ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَ

قاب قوسین (دصال الہی) مطلوب ہے اور

الْمَطْلُوبِ مَقْصُودُهُ وَالسَّقْمُودِ

مطلوب مقصود ہے ان کا اور مقصود

مَوْجُودٌ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ

ان کے پاس موجود ہے سردار رسولوں کے خاتم

النَّبِيِّنَّ شَفِيعِ الْمَذْنُبِينَ أُنْبِيَّ

سب نبیوں کے بھٹانے والے گنہگاروں کے علم غرار

الْغُرَبَاءِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

سافروں کے رحمت واسطے جہان کے لوگوں کے

رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الْمُشَاقِّينَ

موجب آرام عاشقوں کے مراد مشتاقوں کے

شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ

آفتاب خدا شناسوں کے جماع راہ خدا چلنے والوں کے

مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ حَبِيبِ الْفُقَرَاءِ

چراغ مقربوں کے دوست رکھنے والے غنا جوں

وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينَ سَيِّدِ

اور مسافروں اور مفلسوں کے سردار جن د

الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْكَرَمَيْنِ أَمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

انس کے نبی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے پیشوا بیت المقدس اور

وَسَيَّلْنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ

کعبہ کے اور وسیلہ ہمارے پیغمبر دنیا اور آخرت کے صاحب مرتبہ مقدار

قَوْ سَيِّئِينَ مَحْبُوبِ رَأَيْتَ الْمَشْرِقِيِّينَ

دو کمانوں کے محبوب پورے دو گار دو مشرقوں

وَالْمَغْرِبِيِّينَ جَدِّ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ

اور دو مغربوں کے نانا امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے

مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ رَبِّ الْقَاسِمِ

مالک ہمارے اور مالک جن دانس کے کنیت قاسم

مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ

نام محمدؐ بیٹے عبد اللہ کے ایک نور ہیں اللہ کے

اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُسْتَأَقُونَ بِنُورِ

نور سے اے غائستو نور

جَمَالِهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ

جمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دُودِ بھیمراویہ ان کے اور ان

أَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کی اولاد کے اور پاروں کے اور سلام بھیمراویہ سلام بھیجنا



# نَمَازٌ مُّرَجِمٌ

ایمان مفصل اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ

ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر

وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرَ خَيْرًا وَشَرًّا

اور اس کے رسولوں پر اور نبیامت کے دن پر۔ اس پر کہ اندازہ کل نیکی اور بدی کا

مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر کہ اٹھنا ہے سب کو مرنے کے بعد

ایمان محمل اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ

ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ ہے وہ ساتھ اپنے ناموں اور

وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ

صفات اپنی کے اور قبول کیا میں نے اس کے تمام احکام کو

اِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ

اقرار کرتا ہوں میں ساتھ زبان اور دل سے یقین کے ساتھ

وَلِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ہنیں کوئی معبود سوا اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں

دوم کلمہ شہادت **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

ایک ہے وہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا اور گواہ ہوں میں اس بات کا کہ محمدؐ بندہ ہے

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط سوم کلمہ تجید **سُبْحَانَ اللَّهِ**

اس کا اور رسول ہے اس کا۔ پاک ہے اللہ سب

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا

تعریف اللہ کو ہے اور نہیں کوئی قابل عبادت کے سوا اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

بچنا گناہ سے اور نہ قوت نیک کام کی مگر ساتھ اللہ مدد والے کے کہ بلند ہے بڑا ہے۔

پہنچا ہم کلمہ توحید **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ**

ہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک

لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ حَيُّ قَيُّمٌ وَبِئْتِ وَهُوَ

ہیں اسی کا راج ہے اور اسی کو ہے تعریف زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور خود

حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

زندہ ہے ایسا نہیں کہ موت ہوے اس کی ہمیشہ ہمیشہ صاحب بزرگی اور بڑائی کا اسی کے

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لاہدی میں سے سب بھلائی اور وہ سب پر قدرت رکھتا ہے

يَحْمِكُمْ كَلِمَةً اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رِبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

بخشش طلب کرتا ہوں میں اللہ سے کہ میرا رہے۔ تمام گناہوں

أَذْنِبْتُهُ عَمَلًا أَوْ خَطَاً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً وَالْوَبُ

سے وہ گناہ جو عمدًا ہوں یا خطا سے پوشیدہ ہوں یا ظاہر اور رجوع کرتا ہوں

إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ

طرف اس کے اس گناہ سے کہ میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے کہ نہیں

الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

جانتا میں تحقیق تو جاننے والا ہے غیبوں کا

وَسِتَّارِ الْعُيُوبِ وَغَفَّارِ الذُّنُوبِ وَالْأَخْلَاقِ

اور چھپانے والا ہے عیبوں کا اور بخشنے والا ہے گناہوں کا اور نہیں ہے۔

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

طاقت اور نہیں ہے توت مگر ساتھ اللہ بلند اور بڑے کے۔

چھٹا کلمہ رُوِيَ كَفَّرَ اللَّهُ رِبِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ

یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں طاقت تیرے سے اس بات سے

اَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ بِهِ وَاَسْتَعْفِرُكَ

کہ شریک کریں تیرا کسی ایسی چیز کو جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں

لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ وَتَبَّرَاتُ مِنْ

اس گناہ سے کہ نہیں جانتا ہوں میں توبہ کی میں نے اس سے اور بیزار ہوا

الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ وَالْكَذِبَ وَالْغَيْبَةَ وَالْبِدْعَةَ

کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے

وَالنَّمِيمَةَ وَالْفَوَاحِشَ وَالْبُهْتَانَ وَالْمَعَاصِيَ

اور جنبل خوردی اور گندی باتوں سے اور جھوٹے طوفان باندھنے سے اور سب

كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُولُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

گناہوں سے اور اسلام لایا میں اور کہتا ہوں میں لا الہ الا اللہ

حَمْدُ رَسُوْلِ اللهِ

محمد رسول اللہ

نماز سے پہلے اذان کا اذان اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ

ہونا ضروری ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

سوا اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

رسول اللہ کے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى

آؤ طرف نماز کے آؤ طرف نماز کے آؤ طرف

الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى

بھلائی کے آؤ طرف بھلائی کے

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى

آؤ طرف بھلائی کے نماز پر طہنی بہتر ہے سونے سے

دو بار کہے اور تکبیر ہو تو حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى

آؤ طرف بھلائی کے

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بِكُمْ إِلَهَ الْكِبَرِ إِلَهَ الْكِبَرِ إِلَهَ الْكِبَرِ إِلَهَ الْكِبَرِ

تحقیق نماز کھڑی ہو گئی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَاتِي بِمَا رَوَتْ كِي إِذَانِ فِي حَيَّ عَلَى

آؤ طرف

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے



الفلاح کے بعد اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ

بھلائی کے اللہ سے بڑا ہے اللہ سے بڑا ہے نہیں کوئی معبود

إلا اللہ کہے۔ اور اذان کے سننے والوں کو بھی وہی کہنا

سوائے اللہ کے

چاہیے جو مؤذن کہے حَیُّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَیُّ عَلَى

آؤ طرف نماز کے آؤ طرف

الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ

بھلائی کے نہیں پھرنا گناہ سے اور نہ قوت عبادت کی مگر ساتھ

کہے۔ اذان کے بعد دعاء وسیلہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبِّ

اللہ کے۔ اے اللہ مالک اس

هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ

بلانے اور نماز قائم کی ہوئی کے

اِنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

نے محمدؐ کو وسیلہ اور رتبہ اور درجہ

الْوَقِيْعَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مِّمَّا كَانَتْ تُدْعَى

بلند اور کھڑا کر اس کو مقام محمدؐ میں جس کا تو نے

وَعَدْتُهُ وَارْتَضَانَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان سے وعدہ کیا اور نصیب کر شفاعت اس کی دن قیامت کے

أَنْتَ لَا تَخْلِفُ الْمِعَادَ ط

حقیقہ تو نہیں خلاف کرتا وعدہ کا

الصَّلَاةِ وَمِعْرَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ه

نماز ایمان والوں کے لئے معراج ہے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَيَبَارِكُ اسْمُكَ

اللہ تیری ذات پاک ہے خوبوں والا تیرا نام ابد مبارک تیرا نام ہے

وَلِعَالِي حَدِّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط اَعُوذُ

اد تیری شان اوجھی ہے اد تیرے سوا کوئی معبود نہیں - میں مردود

يَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ

شیطان سے خدا کی پناہ یقیناً ہوں خدائے رحیم و

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

رحمن کے نام سے شروع کرتا ہوں سب خوبیاں اللہ کو جو سارے

الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكٌ

جہان کا رب ہے بڑا ہرمان نہایت رحم والا مالک

يَوْمِ الدِّينِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○

الضات کے دن کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ

مانگتے ہیں ہم سب کو سیدھی راہ دکھا اُن لوگوں کی راہ

الْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ

جن پر تو نے اپنا فضل کیا اُن کی بہنیں جن پر غضب ہوا

لَا الضَّالِّينَ ○ اٰمِيْنَ ط قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ

اور نہ گمراہوں کی متبول کر تو کہہ اللہ ایک ہے

اللهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو جنما نہ کسی سے جنما گیا اور نہ کوئی

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ○ اللهُ اَكْبَرُ کہہ کر رکوع

اس کا ہمسرے سے اللہ سب سے بڑا ہے۔

میں جاوے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑنے سُبْحَانَ

اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر رہے پاک ہے میرا رب

رَبِّي الْعَظِيمُ ○ تین یا پانچ یا سات بار کہے سَمِعَ

بڑی عظمت والا سنی اللہ نے

اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ كَمَا هُوَ سَيِّدُهَا كَمَا هُوَ رُؤُوسُهَا وَرُؤُوسُهَا

بات اس کی جس نے سراہا اس کو

لے رہے تیرے

لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا هُوَ سَيِّدُهَا كَمَا هُوَ رُؤُوسُهَا

ہی لئے سب تعریفیں ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔

نَظَرًا فِي رُؤُوسِهَا كَمَا هُوَ سَيِّدُهَا كَمَا هُوَ رُؤُوسُهَا

چاہے میرا رب جو بہت بڑا ہے

پانچ یا سات دفعہ کہے، پھر سجدہ سے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتا ہوا

اللہ بہت بڑا ہے

سراٹھائے اور جلسہ کرے، پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتا ہوا دوسرا سجدہ  
پہلے سجدے کی طرح کرے اور کھڑا ہوئے، اسی طرح دوسری رکعت  
پوری کر کے قعدہ میں بیٹھ کر اَلْحَيَاتُ پڑھے، اَلْحَيَاتُ بِلَدِ

سب زبانی اور بدنی اور

وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ

مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں لے اللہ کے نبی سلام

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ

مجھ پر اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں سلام

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ هُ أَشْهَدُ أَنْ

ہم پر اور خدا کے نیک بندوں پر میں اقرار کرتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اقرار کرتا ہوں کہ محمدؐ اس کا بندہ اور رسول ہے

اگر دو رکعت نماز ہے تو بعد النجیات کے آگے تکھی ہوئی درود اور دعا

پڑھے اور اگر چار رکعت یا تین رکعت نماز ہو تو بعد النجیات کھڑے ہو

کر نماز پوری کرے درود شریف اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور دعا پڑھے اے اللہ حضرت محمدؐ پر اور حضرت محمدؐ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

اور ان کی آل پر نازل کی یقیناً تو سراہا گیا خوبوں والا ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ تو حضرت محمدؐ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ

جیسے کہ برکت کی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی



اَبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

یقیناً تو خوبیوں والا بزرگی والا ہے

رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِيْمًا الصَّلَاةِ وَمِنْ

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پر قائم

ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبِّنَا

رکھنے والا کہ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول کر اے ہمارے پروردگار

اعْفُرْ لِي وِلْدَانِي وَالْمَوَدَّةَ بَيْنِي وَبَيْنَ

مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش

يَقَوْمِ الْحَسَابِ ۝ اور چلے یہ دعا بھی پڑھ

جس دن حساب قائم ہو

لے: رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّ فِي

اے رب . دے مجھ کو نیکی دنیا کی اور

الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

نیکی آخرت کی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے

پھر نماز تمام کرنے کیلئے دائیں اور بائیں طرف منہ پھیر کر کہے: السَّلَامُ

سلام ہو تم پر

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط اور پھر یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ

اور رحمت اللہ کی لئے اللہ تو

أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ

سلامت ہے اور کچھ ہی سے سب سلامت ہیں اور تیری

يُرْجِعُ السَّلَامَ حِينَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

طرف سلامتی کا رجوع ہے اے رب ہم کو چین سے رکھ اور ہم کو

وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكَ رَبَّنَا

سلامتی کے گھر یعنی بہشت میں داخل کر تو برکت والا ہے اسے ہم دروگاہ

وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

ہمارے اور تو بلند ہے تو اے بزرگی اور بڑائی کے صاحب

اور ہر فرض منان کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے: اللَّهُ لَا

اللہ کے سوا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط الْحَيُّ الْقَيُّومُ ط لَا تَأْخُذُهُ

کوئی بوجھنے کے لائق نہیں زندہ سب کو تھانے والا نہ اسے اوتھ

سَنَةٌ ط وَلَا يَكُنُّ لَهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ

آدے اور نہ نیند آسمان زمین میں جو کچھ ہے۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

اجازت کے بغیر سفارش کے لئے زبان ہلاوے خلقت کا اگلا پہلا حال

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ

سب اس کو معلوم ہے، اور لوگ اس کے ہم میں سے کسی شے کا

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس پر وہ چاہے اس کی حکومت میں آسمان

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

اور زمین ساری ہے اور وہ اُن کی

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

حفاظت سے تھکت نہیں اور بڑا عالی شان صاحب عظمت ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ ۝۳۳ بِارْحَمِ اللَّهِ ۝۳۳ بِارِأْوَى

پاک ہے اللہ خولتے اللہ کے واسطے

اللَّهُ أَكْبَرُ ۝۳۴ بَارِءٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّارِ ۝۳۴

اللہ سے بڑا ہے لے اللہ سے دوزخ کی آگ سے بچا

## نماز وتر پڑھنے کا طریقہ

وتر کی نماز واجب ہے اور اس کی تین رکعتیں ہیں جو طریقہ اوپر  
 ذکر ہو اسی طریقہ سے یہ نمازیں پڑھی جائیں گی مگر اتنا فرق ہے کہ  
 تیسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ قل هو اللہ پڑھے پھر دونوں  
 ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے اور دعا قنوت پڑھے جو یہ ہے

وَعَمَّا قَنُوت

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ لَسْتَ عَفْرُكَ

اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تیری بخشش چاہتے

وَلْتُوْمِيْنَ بِكَ وَ نَشُوْكَلْ عَلَيْكَ وَ نَشُوْ

ہیں اور تجھی پر ایمان لاتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری

عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ

خوبیاں بیان کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے ہم

وَ تَخْلَعُ وَ تَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ط اللَّهُمَّ

اور علیحدگی اور بیزاری اختیار کرتے ہیں ان سے جو تیری نافرمان کرتے ہیں اے اللہ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ

مجھی کو ہم بوجھتے ہیں اور تیرے لئے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری

وَخُفِدُ وَنُرْجُو أَرْحَمَتَكَ وَخَشِي عَذَابَكَ

طرف ددڑتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہوں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے

أَنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُدْحِقٌ

دڑتے ہیں یقیناً تیرا عذاب نیکوؤں پر پہنچنے والا ہے۔

وقت وتر کا عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد ہوتا ہے

### نماز جمعہ

پہر مسلمان مرد جو تندرست و مقیم اور شہر میں ہو اور اپنا بیچ بھی نہ ہو۔  
 اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے، جو  
 ظہر کا ہے جمعہ پڑھ لینے سے ظہر کی نماز ذمہ سے اتر جاتی ہے۔  
 جمعہ کی نماز کے امام کو خطبہ پڑھنا اور کھم از کھم تین آدمیوں کی جماعت ہونا  
 شرط ہے بغیر ان دونوں باتوں کے جمعہ نہیں ہوتا جمعہ کی دو رکعتیں ہیں  
 ان کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اور نماز سے پہلے  
 خطبہ پڑھنا اور خاموش بیٹھ کر سننا دونوں ضروری ہیں



## مستحب اوقات نماز

### صبح کی نماز

صبح صادق ہونے کے بعد اس قدر تاخیر افضل ہے کہ اجمالا ہو جائے

### ظہر کی نماز

زوال کے بعد چاروں میں جلدی اور گرمیوں میں دیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔

### عصر کی نماز

دو مثل گزرنے کے بعد آفتاب زرد ہونے سے پہلے پڑھنا اور پر کے دن جلدی کرنا افضل ہے۔

### مغرب کی نماز

آفتاب غروب ہوتے ہی جلدی کرنا اور پر کے دن احتیاطاً دیر کرنا افضل ہے۔

### عشاء کی نماز

شفقِ ابھین غروب ہونے کے بعد تہہائی رات تک پڑھنا اور

ایس کے دن جلدی کرنا افضل ہے۔

### جمعہ کی نماز

زوال کے بعد، مسئلہ مریض و معذور لوگ گھر میں ظہر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ لیں۔

### عیدین کی نماز

آفتاب نکلنے کے بعد عید الفطر میں تاخیر اور عید الفضحیٰ میں جلدی کرنا افضل ہے۔

تفصیل نماز	فجر	ظہر	عصر	مغرب	عشاء	جمعہ	عیدین
رکعات فرض	۲	۴	۴	۳	۴	۲	۲
رکعات واجب	-	-	-	-	۳ وتر	-	-
رکعات سنت نہوں سے پہلے	۲ موکہ	۴ موکہ	۴ غیر موکہ	-	۴ غیر موکہ	۴ موکہ	-
رکعات سنت نہوں کے بعد	-	۲ موکہ	۲ موکہ	۲ موکہ	۲ موکہ	۴ موکہ	-
رکعات نفل	-	۲	-	۲	۴	۲	-
تعداد کل رکعات ہر نماز	۴	۱۲	۸	۷	۱۷	۱۲	۲



از شیخ عبد الحمید صاحب صدیقی

یا الہی در پہ آیا ہوں دعا کے واسطے  
 بارِ عصیاں سر پہ لایا التجا کے واسطے  
 دو جہاں کے سرور کونین کی اُمت سے ہوں  
 لاج رکھ لینا محمد مصطفیٰ کے واسطے  
 مشکلیں آسان کرے دُور ہوں سب فکر و غم  
 حضرت مولا علیؑ مشکل کشا کے واسطے  
 رو سیاہ ہوں پر گناہ ہوں معاف کر تقصیر سب  
 حسن بھری صاحب ذی عز و جاہ کے واسطے  
 کر محبت خاص اپنے فیض سے مجھ کو عطا

حضرت حبیب عجمی ذوالعطا کے واسطے  
 عشق اپنا کر عطا ہستی میں ہو جاؤں فناہ  
 حضرت داؤد طائیؑ مہ لقاہ کے واسطے  
 یا الہی دل کو روشن کر دے اپنے نور سے  
 حضرت معروٹ کرجی اولیاء کے واسطے  
 بستر وحدت سے الہی قلب کو آگاہ کر  
 خواجہ مہرئی سقطی اہل ہڈا کے واسطے  
 عارفوں کے فیض سے کرے مجھے تو مستفید  
 شیخ بغدادی جنید مقتدا کے واسطے  
 یا دیرمی میں رہوں مشغول ہر دم صبح و شام  
 حضرت ابوبکر شبلیؑ باسما کے واسطے  
 حشر میں اس خاندان میں سے اٹھا لیستاً خدا  
 خواجہ عبدالواحد صاحب جیا کے واسطے  
 دل کو فرحت دے مجھے سب فکر و نیا دور کر  
 ابوالفرح طرطوسی صاحب صفا کے واسطے

وقتِ نزع ہو میرا ایمان پر ہی خاتمہ  
ابوالحسن شکرگاری خواجہ بے ریا کے واسطے

کیا مبارک وقت ہو مجھ کو بنا کے تو سعید

حضرت سعید مبارک باجیا کے واسطے

دستگیری کچھو و دونوں بہاں میں اسے خدا

غوث اعظم دستگیر منہا کے واسطے

رزق طیب کر عطا غیروں کا نہ محتاج کر

قطبِ دوران عبد الرزاق لور خدا کے واسطے

ہر گھڑی ہر کام پر پوری طریقت ہو مری

خواجہ ابو صالح حبیب بے نوا کے واسطے

حمد تیری کرتے کرتے دم نکل جائے مرا

خواجہ احمد شاہ محبوب خدا کے واسطے

حشر کے دن دولت دیدار سے کر فیض یاب

خواجہ شہاب الدین صاحب آقدا کے واسطے

شمس کی مانند دل روشن میرا کر دے خدا



شاہ شمس الدین شمس اولیا کے واسطے  
شکر و بدعت دل سے میرے دور کرنے کبریا

شاہ علاؤ الدین صاحب خوش بقا کے واسطے  
نفس اور شیطان کے سب مکر سے لینا بچا

سید نور محمد باخدا کے واسطے  
تیری رحمت بکریاں مجھ پر بھی ہو جائے ذرا

حضرت محمود جی شاہ بادشاہ کے واسطے  
مجھ کو بھی اپنا دکھائے خواب میں جاہ و جلال

عبدالجلال صحرائی در بے بہا کے واسطے  
شرف دے مجھ کو طریقہ قلندر کا ضرور


سید بہاول شیر قلندر رہنما کے واسطے  
شاہ رکھنا دل کو میرے اولیاء کی بزم سے

ابوالمعالی صاحب علم و حیا کے واسطے  
اپنے پیغمبر کی شریعت میں مجھے حکم رکھ

سید محکم الدین تجروی اصفیاء کے واسطے

آرزوئیں پوری ہوں جو نیک ہوں میری تمام  
 امیر بالا پیر پیر صوفیا کے واسطے  
 اپنے لطف و شوق سے بھر لو کر کے اے خدا  
 خواجہ عبداللطیف برقی باون کے واسطے  
 فیض سے کہ مرتبہ اپنی سخاوت کا عطا  
 خواجہ سید حسین شاہ نہ لقا کے واسطے  
 عشق کامل کر عطا دل کو مرے معمور کر  
 سید محمد علیؒ اور حضرت بدوح شاہ کے واسطے  
 دنیوی اندوہ غم مجھ سے ہٹا لینا خدا  
 مہر ظہری اور بہادر شاہ کے واسطے  
 طالب مرشد بناوے اور مجھے مقبول کر  
 سید طالب حسین صاحب صفا کے واسطے  
 سید مدد شاہ و سید شیر شاہ کے طفیل  
 بخشش دینا مجھ کو سید لعل شاہ کے واسطے  
 کہ عنایت کرم اپنے فضل سے رب العلیٰ

خواجہ عنایت حسین شاہ بے ریا کے واسطے  
 روز عشر میں میں دامن تمام لوں گا پیر کا  
 حضرت سلطان شاہ اولیا کے واسطے  
 کارہ میں کھولانے و زبیر فیض عام کا  
 مجھ کو بھی دیدار ہو شاہ کارہ کے واسطے  
 معاف کر تقصیر سب اب میرے مرشد کے طفیل  
 حضرت رجب علی پیر ہدایا کے واسطے  
 سے مقام ان کا مری رحمت کی کہلاتے گلی  
 مجھ کو بھی دیدار ہو تیری رضا کے واسطے  
 خاندان قادری کا سچرہ ہو جب در دریاں  
 پھر مرادیں بد نہ ہوں ان اولیا کے واسطے  
 رکھ تقبور پیر کا اور ختم کر اس کو حمید  
 کر دعا ہر نیک و بد کے دعا کے واسطے



# دیار کامرہ شریف و میر شریف

دے کثرت دیدار کا اس دور فانی میں مجھے  
 قطبِ دوراں محمد اشرف باصفا کے واسطے  
 نور العین سلطانِ حکیم سجادہ نشین کامرہ  
 بخشش دے محمد ضمیر نور الہدی کے واسطے

تعلیم غوثیہ	تمام کتاب
صوفی غلام نبی عفی عنہ	تالیف
یا زوہم	بار
دو ہزار	تعداد
حاجی نذیر احمد صاحب	ناشر
جوٹا لہ ضلع جہلم	
فروری ۱۹۸۴ء	تاریخ اشاعت
لاٹانی پریس اصغر مال راولپنڈی	پرنٹنگ

## خطبہ اولیٰ جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ قَدَّرَنَا فِیْ سَابِقِ عِلْمِهِ

بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ط وَتَرَيْنَ بِجِوَاهِرِ الْجُمُعَةِ

بِرِقَابِ الشُّهُورِ وَالْاَوَّانِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

الَّذِیْ رَبَّنَا فِی الدُّنْیَا بِنِعْمِ الْاَلْوَانِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِیْمِ فِی الْقُبُورِ وَالِدِّیْدَانِ مَا لِكَ یَوْمِ

الدِّیْنِ فِیْهِ یُحْكَمُ بِالْعَدْلِ وَالْقَضْلِ

وَالْبُرْهَانِ ط اِیَّاكَ نَعْبُدُ حَقَّ الْمَعْبُودِیَّةِ



فِي كُلِّ حِينٍ وَإِنَّ هُوَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ هُوَ عَلَيَّ

الْأَعْدَاءِ مِنَ الْجِنَّ وَالشَّيْطَانِ أَهْدِنَا

الْحِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بِالِاسْتِقَامَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ

وَالْإِيمَانِ وَالْحِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

بِالْهُدَايَةِ إِلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ نَعْمَ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالطَّغْيَانِ

وَالضَّالِّينَ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَالْبِدْعِ

وَالْعَصْيَانِ هُوَ أَمِينٌ إِجَابَةً لِلَّهِ تَعَالَى

وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا

إِلَى لِقَاءِ الرَّحْمَنِ وَنَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحَدَّةٌ لَا شَرِيكَ لَهَا وَإِلَهَا وَاحِدًا أَحْمَدًا

قَادِرًا جَبَّارًا لِلذُّنُوبِ غَفَّارًا لِلْعَيُوبِ سِتَّارًا

وَلِنُشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَمًا

أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْمِحْنَةِ وَالْفِرَارِ وَالْعُقُوبِ

دَارُ الرَّاحَةِ وَالنُّقَرَاءِ بِأَدْرُؤِي الدُّنْيَا

بِالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

بِالْمَعَاصِي رَبَّنَا أَمَّنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ط أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَ

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ط بَارَكَ اللهُ

لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ

بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ط إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ

كَرِيمٌ قَدِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

وَرَبُّ حَلِيمٌ ط

تین تسبیح کی مقدار بیچہ کر پھر خطبہ ثانیہ پڑھیں

خطبہ ثانیہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى

رَسُولِهِ الْكَرِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ أَنَا

إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ

غَيْرُ فَخْرٍ طَوَّأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا

بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَقِدُوا وَأَنَا

مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَسُورُوا وَلِوَاءِ الْحَمْدِ

يَوْمَ عِذِّ بَيْدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي

وَلَا فُخْرَ طَوَّ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ

قَرْنَا فَرْنَا وَحَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي

كُنْتُ مِنْهَا وَمِثْلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسْفِينَةٍ

نُوحٍ مِنْ رَاكِبَيْهَا طَوَّ نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا

غَرَّقَ ط وَأَصْحَابِي كَأَلْبُجُومٍ بِأَيْهِمْ أُنْتَدِيمٌ

وَلَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ

أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ

عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ط وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ

بْنُ عَفَّانٍ ط وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاةً فَعَلِيٌّ مَوْلَاةٌ

وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

وَالْفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَخَيْرُ

نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَضْلُ عَالِشَةَ

عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

وَعَلَى عَمِّيهِ الشَّرِيفِينَ بَيْنَ النَّاسِ الْحُمْزَةُ وَ

الْعَبَّاسِ رَضَوَانُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَأَخْذُلْ

مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ لَعَادِلُوا

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَابْتَغَىٰ لِعُظْمَىٰ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَاعْتَرَوْا

أَجَلٌ وَأَنْتُمْ وَأَهْمٌ وَأَكْبَرٌ



# خُطْبِ أُولَى عِيدِ الْفِطْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ سُبْحَانَ مَنْ

نَوَّرَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ بِسِرَاجِ الْهُدَايَةِ وَ

الْفُرْقَانِ وَشَرَحَ صُدُورَ الصَّائِمِينَ بِنُورِ

الْمَغْفِرَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْكَرَمِ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ

بِحَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

وَاللَّهُ الْحَمْدُ سُبْحَانَ مَنْ فَتَحَ لَكُمْ أَبْوَابَ

الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ ط وَوَعَدَهُمْ دَخُولَ

بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَنَا نَبِيُّ

أَخْبَرَ الزَّمَانَ ط أَنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ

الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا صَائِمٌ شَهْرًا مَضَى

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ ط سُبْحَانَ مَنْ أَنْزَلَ

الْقُرْآنَ عَلَى نَبِيِّنَا فِي أَشْرَفِ لَيْلَةٍ مِّنْ لَّيَالِي

شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَعَلَ قِيَامَهَا خَيْرًا مِّنْ

قِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ط وَ

أَرْسَلَ فِيهِ الْمَلَائِكَةَ لِتَبْلِيغِ سَلَامِهِ

عَلَىٰ كَافَّةٍ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْإِيقَانِ ط وَغَفَرَ

لَهُمْ جَمِيعَ الْكِبَايَرِ وَالْعِصْيَانِ ط اللَّهُ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ ط اعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ شَرِيفٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجَاءَ الطَّالِبِينَ أَحْسَنُوا

عَلَىٰ الْيَتَامَىٰ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ كَمَا رَوَىٰ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّوا صَدَقَاتِكُمْ

عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ

حَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ

مُسْلِمٍ لَهُ نَصَابٌ فَاحْتِلٌ عَنْ حَوَائِجِهِ

الْأَهْلِيَّةِ لِنَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الصَّغِيرِ وَ

جَارِيَّتِهِ مَلَكًا ط قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلْحَيَاةِ مِنْ

اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ ط

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ط وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

فَصَلَّى ط بَلْ تَوَشَّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ط

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي

الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۚ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ

مُوسَىٰ ۚ رِپَارِهِمْ، بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَنَاكُمْ

فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ

بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَادٌ

كَرِيمٌ قَدِيمٌ بَرٌّ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ

خُطْبَةٌ أُولَىٰ عِيْدِ الضَّمْحَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَتَّوْحِّدِ

بِالْعُظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْمُقَدَّسِ بِالْحَسَنِ الْجَمَالِ

هُوَ الَّذِي هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ

بِيَدِهِ مَفَاتِيحُ الدَّهْرِ قَبَارِكُ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ط اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ط سُبْحَانَ مَنْ

أَوْجِبَ صَلَاةَ الْعِيدِ عَلَى كَافَّةِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ

الْكُفَّاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوْمَ فِي الْيَوْمِ

الْخُمْسَةِ وَيَوْمَ عِيدِ الْأَضْحِيَّةِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

بَعْدَهُ مَتَابِيَاتٍ وَالْخَامِسُ يَوْمُ الْفِطْرِ ضِيَاقَةٌ

مَنْ عِنْدَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ط اللَّهُ أَكْبَرُ



اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ

السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَالْعَرْشُ الْعَظِيمُ

وَالْكَعْبَةُ الْحَسَنَاءُ وَالرُّكْنُ وَالْحَطِيمُ

وَالزُّمْرُومُ وَالْمُتَزَّمُ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْحَيْكُمْ أَيُّهَا

النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ

بِشَرْطِ الْإِسْتِطَاعَةِ وَأَوْجِبَ الْأُضْحِيَّةَ

لُطْفًا وَكَرَامَةً فَاجْعَلُوا هَابِرًا قَائِمًا وَمَطِيئَةً

لِيَوْمِ الْحُسْرَةِ وَاللَّتْدَامَةِ ط وَرَوَى عَنْ زَيْدِ

بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَحْبَابُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ

الْأَحْبَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ

إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ سَمِنُوا حَتَّى يَأْ

كُمُ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ وَلَا تَدْخُرُوا

عَجْفَاءَ وَلَا عَرْجَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ وَلَا مَقْلُوعَةَ

الْأُذُنِ وَلَوْ يَوَاحِدَةً فَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ

شَاةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ سِيعَمٌ

الْبَقَرَةَ وَالْإِبِلَ وَكَبِيرًا وَعَقِيبَ الْحَمَلِ

الْمُفْرُوحَةَ مِنْ فَجْرِ الْعُرْفَةِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ

الْيَوْمِ الشَّرِيفِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّهِ لِي

مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا أَنِي أَرَى

فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذُبُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

وَنَادَى فِيهِ أَنِ يَا بَرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ

الرَّعِيَا۟ اَنَا كَذَّٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ؕ اِنَّ

هٰذَا لَكُمُ الْبَلُوۡءُ الْمُبِيْنُ ؕ وَفَدَيْنٰهُ بِذِكْرِ

عَظِيْمٍ ؕ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ؕ سَلَامٌ

عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ؕ

اِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ پارہ ۲۳، رکوع ۷، بَارَكَ

اللّٰهُ لَنَا وَلكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا وَاٰیٰتِكُمْ بِالْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ لَعَلٰى اٰحْوَادٍ

كَرِيْمٍ قَدِيْمٍ بَرُّوْا رَحِيْمٍ ؕ

كَرِيْمٍ قَدِيْمٍ بَرُّوْا رَحِيْمٍ ؕ

خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ عِيْدِيْنَ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمِيْدًا وَنُسْتَعِيْنُهٗ وَنُسْتَغْفِرُهٗ

وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهَدَاهُ لِشَرِيكٍ

لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى بَدْرٍ الدُّجَى نُورِ

الْهُدَى صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى رَسُولِ

التَّقْلِينَ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ شَفِيعِ

الْأُحَمِّ فِي الدَّارَيْنِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط رَسُولِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى

أَلِهِ وَخَلَفَائِهِ الرَّأْسِدِينَ ه خَصْمُونَا عَلَى

الْإِمَامِ سَيِّدِ أَهْلِ الْعِرْفَانِ ط خَلِيفَةِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَكَانٍ ط

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الصَّادِقِ

الشَّفِيقِ رَحِمَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى الْإِمَامِ

قَاتِلِ الْكُفْرَةِ وَأَهْلِ الطُّغْيَانِ ط أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

عُمَرَ الْفَارُوقِ الْمُؤَيَّدِ بِالْإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ وَعَلَى الْإِمَامِ حَبِيبِ اللَّهِ أَمْنَانَ ط نَاجِرِ

أَهْلِ الْإِيْمَانِ ط جَامِعِ الْقُرْآنِ ط أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ



عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلِيٌّ

أَسْبَجُ لَسْتَجْعَانِ مُطْعِمِ الْمَسَاكِينِ وَالْجُعْبَانِ

أَهْلِي الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ الْمُرْتَفِعُ أَسَدِ اللَّهِ

الْمُسْتَعَانِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ وَعَلَى الْإِمَامِ

الْفَاضِلِينَ الْكَامِلِينَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ

وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَلَى أُمَّهِمَا سَيِّدَةِ

النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

وَعَلَى عَمِّيهِ الشَّرِيفِينَ الْمَكْرُهَيْنِ بَيْنَ

النَّاسِ الْحُمُرَةِ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

وَالسَّابِقِينَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ إِلَىٰ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ رَحِمَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ أَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ

مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ط عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ يَأْهَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي

النُّقْرَبِيِّ وَيُنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ط

يُعْظِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ه اذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ

يَذْكُرْكُمْ وَاذْعُوهُ يُسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ

وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

## خطبہ نکاح

پہلے ایک وکیل اور دو گواہ لڑکی سے اجازت لیں۔ دو لہا  
اور دو نہن دونوں کو صفت ایمان اور چھ کلمے پڑھائیں پھر  
نکاح پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ خَمْدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ

وَلَوْ مِنْ يَدِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ

يَعْقُدُهُ اللَّهُ فَلَا مُمْحِلَ لَهُ وَمَنْ يَضِلْ

فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ

نِسَاءً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

أَيُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثَلَاثًا

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي نَمَنْ رَغِبَ

عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اللَّهُمَّ أَلِفَ بَيْنَهُمَا

كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ اللَّهُمَّ أَلِفَ

بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ مُوسَى وَصَفُورَاءَ

اللَّهُمَّ أَلِفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ

وَسَارَةَ اللَّهُمَّ أَلِفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ

يُوسُفَ وَزُلَيْخَا اللَّهُمَّ أَلِفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا

أَلَفْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِيهِ

وَسَلَمَ وَعَائِشَةَ الْحَبِيبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهَا اللَّهُمَّ أَلِفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَفْتَ بَيْنَ عَلِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهَا وَحَلِيٍّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ

آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تحریر میجر عبد الحمید صدیقی صاحب

## تعارف

مختصر حالات سلطان العارنیف سے سراج مشتاقانے غوثیہ  
و نحر عاشقانے قادریہ سید رجب علی صاحب سے قدم سے سرہ  
القدوس، حسنی حسینی سے رحمۃ اللہ علیہ

حیران ہوں کہ تعارف کراؤں تو کیسے کیونکہ یہ کام میری وسعت  
نظم سے باہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو اپنے مرشد کی تعریف جتنی بھی  
کی جائے کم ہوگی۔

دویم حضور پر نور کے مجاہدات و ریاضت، خدمتِ خلق  
حقوق العباد کی پابندی کے متعلق اگر عرض کروں تو ایک ضخیم کتاب  
مرتب ہو جائے گی۔

حضور کا طرز زندگی اور عملی شریعت عین حضور رسالت مآب کی  
پیروی ہے۔ ولایت میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور غوث الاعظم  
کا نقش قدم ہیں۔

اسم مبارک :-

حضور کا اسم گرامی رجب علی شاہ ولد نیگیچی شاہ ہے مری والے  
آپ کو راج دل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔

## حالاتِ زندگی :-

سیدی مرشدی گلگت کے باشندے تھے۔ ساوات حسین نسب سے تھے۔ ۱۹۰۱ء میں آپ کشمیر تشریف لائے۔ وہاں کسی مال افسر کی ملازمت اختیار کی۔ ۱۹۱۲-۱۳ء میں لارنس کالج میں رہے۔ اس کے بعد فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ اور دوران ملازمت ۵ برس ۱۹۱۵ء تک لندن میں مقیم رہے۔ ۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۰ء میں بغداد شریف نجف شریفہ، کربلا معلیٰ رہے۔ حضرت شیخ علیہ السلام کے دربار میں چار ماہ قیام فرمایا۔ بارہ امامین کے درباروں میں ایک ایک ماہ قیام فرمایا۔ آپ کی تمنا و پیدار شفاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت کو پہنچی ہوئی تھی۔

## طریقت میں بیعت :-

جب ۱۹۲۴ء میں واپس ہندوستان تشریف لائے تو حضرت بری امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ کیونکہ غیر مالک میں جانے سے پہلے حضور کو روحانیت میں بری امام صاحب کی بیعت حاصل ہوگئی تھی۔ حضرت بری امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان اولیا ٹیکہ صاحب سے بیعت کریں۔ لہذا آپ حضرت سلطان ٹیکہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ حضور نے بحال شفقت و مہربانی حضور کو بیعت فرمایا۔

## راولپنڈی آمد :-

کچھ عرصہ اپنے پیرومرشد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دن رات

مصرفت رہے۔ پھر مولوی محمد اسحاق صاحب مرحوم بالنسہروی کی مسجد  
محلہ امام باڑہ میں مقیم رہے۔ یہاں راولپنڈی میں مزدوری کر کے اپنا  
گزارہ کرتے رہے۔ پھر مری واپس آگئے۔ اور مستقل قیام فرمایا۔  
مری میں مستقل قیام۔

شروع شروع میں آپ کشمیری محلہ کی مسجد میں ہی رہا کرتے تھے  
ازاں بعد ۱۹۴۵ء میں آپ وہاں سے ہجرت فرما کر دھوبی گھاٹ میں  
آگئے۔ وہاں تعمیر مسجد خود کی۔ مسجد کے ساتھ آپ نے دس مزار پھلدار  
درخت لگائے۔ جو اس وقت ایک بہت بڑا باغ ہے۔

اور وہیں اب آپ کا تاقیامت مسکن ہے یعنی روضہ مبارک  
آپ کی آرزو باغبانی اس غرض سے تھی کہ اس کی آمدنی مسجد کے  
لئے خود کفیل ہو۔

### خدمتِ خلق۔

مری و دور دراز علاقے کے لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہتے  
تھے۔ آپ کا نگرِ حسب توفیق جاری رہتا۔ حسب توفیق آپ ہمان  
نوازی کرتے اور بسا اوقات طعام اور چائے وغیرہ اپنے ہاتھوں سے  
تیار کر کے ہمان کی خاطر داری کرتے۔ آپ کا نصب العین ہمیشہ  
خدمتِ خلق رہا ہے۔ آپ نے جو کثیر اور انوکھے کام خدمتِ خلق

کی خاطر کئے ہیں۔ وہ محض وقتی نہیں۔ بلکہ ابدی یادگار زمانہ ہیں۔ گو  
کہ فی الحال نشر و شاعت نہیں ہے۔ مثلاً مسجد کی تعمیر، قبرستان  
کی دیکھ بھال کشمیری محلہ مری میں مسجد اہل محلہ میں پانی کی دستیابی جو

صاحب نظر فقیر سے عمل میں آئی عام طور پر مشہور ہے۔ علاوہ ازیں  
 اپنے خواہم ترین اور کٹھن کام رفاہ عام کے لئے اپنی جسمانی اور روحانی  
 قوت سے کیا وہ سوال سے لے کر دھوبی گھاٹ اور کشمیری محلہ سے  
 قبرستان تک پتھر ملی مٹرک کی تعمیر اور درستی کرنا ہے۔  
 یہ اس زلزلے کی یادگار ہے جب آپ قلندری رنگ میں تھے اور  
 صرف کملی زیب تن رہا کرتی تھی۔ آپ نے یتیموں کی پرورش میں  
 خاص طور پر حصہ لیا اور غریبوں کی ہر طرح کی امداد کرتے رہے۔ بیوہ  
 عورتوں کی بھی ہر طرح خدمت کی اور ان کا خیال رکھا۔ اس دور میں  
 صرف یہی آپ کا مشغہ تھا۔

### رحلت :-

آخر اپنے رب سے ملاقات فرمائی۔ حضور بوجہ عارضہ پیٹ ۱۸  
 اگست بمطابق ۱۱ جمادی الاول ۱۳۸۷ھ ہجری بروز جمعہ المبارک بعد  
 از نماز مغرب واصل بحق ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔  
 وہیں دھوبی گھاٹ رجب آباد میں پہلے سے تیار کی ہوئی قبر میں  
 مدفون ہوئے۔ روضہ مبارک بنا دیا گیا ہے اور پہلو میں مسجد بھی۔  
 دونوں کی ابھی کچھ تعمیرات باقی ہیں۔

سالانہ عرس :-

سالانہ عرس ہر سال ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ اگست کو بڑی شان و  
 شوکت سے منایا جاتا ہے۔

نوٹ :- مزید حالات سوانح حیات میں ملاحظہ فرمائیں۔



مزارِ اقدسِ سیدِ رحیمِ علی صلی اللہ علیہ وسلم

تاریخ  
سالِ عمر  
۱۸ اگست



تاریخ و فاتح  
ابو لالی  
۱۳۸۶  
مطابق  
۱۸ اگست  
۱۹۶۶

دھوبی گھاٹ مری

تشکر

خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بندہ ناپسند  
نذیر احمد کو اپنے مرشدِ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی تعمیل کی اور  
فرمانی اور تعلیمِ غوثیہ کی اشاعت کے اسباب عطا فرمائے  
شائع کرے۔ ناپسند نذیر احمد (خلیفہ مجاز) بمقام خیرات

لاٹانی ہرلٹنگ پریس - اصغر مال روڈ راولپنڈی فون 844948